

<p>و جادارو که برای همه معانی بدرام استعمال این کنیم (ارو) (۱) خوش هونا (۲) سرکش هونا -</p>	<p>معلوم می شود که محققین اول الذکر از همین یک شعر معنی همیشه و دام پیدا کرده اند و آنچه بدین معنی به بای</p>
<p>بدران بقول سروری بحواله ادوات را یعنی - اند (۲) سزه ایست مثل ترب بدبو باشد (سختی ۱۵) عیب بدران مکن و هر چه بود نیکو بین ز که بصحرا می جهان</p>	<p>فارسی می آید تصفیه ماخذش همدرا بنجا کنیم به قباله که اسنادش (ارو) همیشه بقول آصفیه فارسی - دائم - مدام - سدا - نت - آئے دن -</p>
<p>بسیج زوید بیکار ز صاحبان جهانگیری و رشیدی و جامع و سراج بر معنی دوم قلن صاحب برهان بزرگ معنی دوم گوید که این را کند گپا هم خوانند و بزرگ</p>	<p>درا (۱) بدرام - بقول برهان بر وزن اندام بمعنی خرام مولف عرض کند که غیر از برهان دیگر کسی از محققین</p>
<p>معنی اول فرماید که (۳) ران بدهم و (۴) بک اول تشدید ثالث یعنی این کار را تمام کن و پاره گردان و صاحب ناصری بر بزرگ معنی دوم و چهارم اکتفا کرده صاحب</p>	<p>فارسی زبان ذکر این نه کرده جادارو که خرم را خرام نوشته و اگر سند استعمال این معنی پیش شود تو انیم عرض کرد که مجاز معنی پنجم باشد که خرام ناز هم نوعی از سرکشی است</p>
<p>مجهط ذکر این نکره در مولف عرض کند که صراحت این بر اشتق گذشته مخفی مباد که بمعنی اول هم فاعل ترکیبی است مرکب از ران که امر حاضر مازن است</p>	<p>(ارو) خرام - بقول آصفیه - فارسی - اسم مذکر - ناز انداز کی طاکم اور نرم چال - رفتار ناز - شکال - اهل گهلی رفتار (سنه ۵) هزار طرح سے تقلید می</p>
<p>چنانکه گویند که اسپ را بدراند و خوش بینی را اندک و نسبت معنی دوم عرض می شود که اصل این (بدرا) که بود فارسیان از لفظ رانکه عربی کلمه را گرفتند و وزن</p>	<p>کی لیکن ز نه کبک که نذیر طاوس کو خرام آید بدرام شدن استعمال معنی (۱) خوش شدن (۲) سرکش شدن اسناد این بر معنی اول و پنجم بدرام</p>

(۲۲۹)

زائد و آخیش زیادہ کروہ (دبران) کردند یعنی بدبو	گر توانی بدر انداز مرا از دل خویش (دارو) ^{بجھینکنا}
چنانچہ گذارش و گذارش و معنی سوم ہم اسم فاعل	<u>بدر اہ</u> اصطلاح۔ بقول بہار و اند قریب
ترکیبی است گویند کہ ^۱ ایس سوار دبران است ^۲	بمعنی بد آئین کہ گذشت (محمد سعید اشرف ۵)
یعنی مہارت سواری ندارد و دانش بر اسپ خو	ز قدرش جاہرا و ج ماہ کروہ (۱) فلک کشمیر را بدر اہ
نی چسپد و یعنی چہارم باسی موحده اول زائد گیریم	کروہ (۲) مؤلف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی است
(دراں) امر حاضر مصدر (دراںیدن) کہ متعدی	(ارو) بدر اہ بقول آصفیہ۔ بطین۔ بد وضع۔ کھٹا
دریدن است و دریدن یعنی چاک کردن و پارہ	<u>بدرامی</u> استعمال۔ بقول انند جوا کہ فرہنگ فر
شون می آید پس نمیدانیم کہ صاحب برہان تشد	بمعنی بد تدبیر مؤلف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی
رای ہلکہ را چطور نوشت کہ در مصدر رای مشدو	است بمعنی حقیقی (ارو) بدرامی۔ بد تدبیر کہ سکتے
نیست و معنی تمام کردن کار از کجا پیدا و کرد و قتال	ہیں۔ یعنی وہ شخص جس کی رائے اور مشورہ اور تدبیر
(ارو) (۱) بڑی طرح چلانے والا۔ جیسے یہ گاڑ	<u>بدر بیرون</u> استعمال۔ صاحب آصفی از معنی
بڑی طرح چلاتا ہے (۲) دیکھو اشق (۳) سواری کا	ساکت مؤلف عرض کند کہ بیرون کردن است
کچا۔ کم ماہر۔ دکن کی بول چال میں وہ شخص جس کی	دکھال صنفانی (۵) نور ہم گزنتوان کرد ز خورشید جدا
ران نہیں جی (۴) پہڑ وا۔ پہڑ وانا کا امر حاضر۔ ہیں	کرم از خاطر خسر و نتوان برو بدر (۶) (ارو) باہر کرنا
مصدر کو صاحب آصفیہ نے نہیں لکھا۔ در انیدن	جد کرنا۔ نکالنا۔
<u>بدر انداختن</u> استعمال یعنی بیرون افگندن است	<u>بدر تاختن</u> استعمال۔ یعنی بیرون رفتن و رویدن
(ظہوری ۵) سہل باشد کہ برو نم کتی از مخمل خویش	و جدا شدن (ظہوری ۵) ذوق چابک نفسی نالہ

ربایاں وارندہ ہر کجا درو بدرتاخت عنان گیر شدیم	بالفتح و فتح رای مهله و سکون خای سجدہ یعنی محزون
(دولہ ۵) بمنزل میرساند کاروان صبر و طاقت را	اند و حکمیں - صاحب شمس از گننامی سند آورده کہ
چو دانستم بدرتاژ و نگاہی از کین اوژ (ارو ۹)	مال فردوسی است (۵) ز زادن چو باورش
باہر جانا - بجاگنا - جڈاہوتا -	پروختہ شدہ ہا رو انش ازاں دیو بدرتختہ شدہ ہا
پدر چو شدین استعمال - بمعنی از کنارہ بیرون	مواضع عرض کند کہ رخت بقول برہان بمعنی
شدن و لبریز شدن (ظہوری ۵) لہم خفاک است	اسباب خانہ و سامان می آید ہای مفعولی بر آفرین
از سوز جگر چشم تر جو شدم ہا بزور شوق از فوارہ شگاہ	زیادہ کردہ با کلمہ بد مرکب کردند و معنی لفظی این
پدر چو شدم ہا (ارو ۹) ابلنا - لبریز ہونا کنارہ ہونا	کسی کہ بد سامان است - اسم مفعول ترکیبی و کتا
پدر چو پیدین استعمال - بمعنی بیرون کردن و دور	از محزون و اند و حکمیں دیگر ہمچو - صاحب برہان
کردن (ظہوری ۵) رونق از دکان بدر چیں	(پدرختہ) را بہ بای فارسی کسور بہ معنی آوردہ
روز بازاری بخر ہا نیست گرا از مشتری گیران خریداری	اگر آرا اصل گیر ہم این مبتدل آن باشد و اگر
دگر ہا (دولہ ۵) نف ختم و ر جگر بگنشت بیم	این را اصل و انیم آن مبتدل این کہ بای فارسی
آرزو دارم ہا بزور گریہ شادی زول حسرت	بدل شود یعنی و بالعکس آن ہم چنانکہ است
پدر چو پیدین ہا (دولہ ۵) لہم مہرست و چشم بر خدا	اسب و تب و تب (ارو ۹) نگمیں بقول تصنیف
روزی کند روزی ہا کہ نشینم نگہ از چشم و حرف از	فارسی - منہوم - رنجیدہ - و لگیر -
لب بدر چو پیدین ہا (ارو ۹) باہر کرنا - نکالنا - دور کرنا -	پدرختہ پیدین مصدر اصطلاحی - فاش خندیدن
پدرختہ اصطلاح - بقول ازند بچوالہ فرہنگ فرنگ	بطوری کہ آوازش دور رسد مقابل فرو گریستن

(دولہ ۹)

(دولہ ۹)

(۲۲۶۸)

<p>(ظہوری ۵) صحبت حسن و عشق و رگیزہ و با من فرو خزینہ و امثال فارسی ذکر میں کروہ از معنی و محل است گریم او بدر خند و پژ (ولہ ۵) فرو میر بزم از رخ ساکت مولاہٹ عرض کند کہ فارسیان این مثل را گریہ شوری گوروزی از بہ بخت تلخ من قندی بدر بہتی کسی زنند کہ چارہ کارش نباشد و بہتی عاشق خند و نمک و انش پژ (ارو ۵) کھلا کھلا کہ ہنسنا ہم بر سبیل کنایہ دارو دکن میں کہتے ہیں اس درد کی دوا نہیں کہ لا علاج مرض ہے</p>	<p>دیکھو باوا از خندیدن (الف) بدرو آمدن (ب) بدرو آوردن (سعدی شیراز ۵) چو عضو می بدرو آورد روزگار پژ و گر عضو ہارا مانند قرار پژ (ارو ۵) درو ہیں بتلا ہونا (ب) درو ہیں بتلا کرنا۔ (سعدی ۵) آرزو ہا در کنارا ز گریہ چہرت مہاو پژ پارا دل بدرو آدم ہیں احوال چہیت (ارو ۵) باہر چہینا۔ بدرو بیدر مال گرفتار است بیرون در شدن و ظاہر شدن (ظہوری ۵) چوں بزم دست ہند فرو از خونم از بدرو آید</p>
<p>پدرو دل دیگران رسیدن مصدر اصطلاحی</p>	<p>مصادر اصطلاحی۔ صاحب</p>
<p>بمخلوق ہمدرد شدن و ہمدردی شان کردن (صائب ۵) احوال من میرس کہ با صد ہزار درد می بایدم بدرو دل دیگران رسید پژ (ارو ۵) اورون کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ صاحب آصفیہ نے ہمدردی پر لکھا ہے۔ شریک درد۔ درد دیکھا ساتھی۔ غمخوار (غمخواری کرنا) بقول آصفیہ ہمدردی کرنا۔ شریک رنج و راحت ہونا۔ دلسوزی کرنا غمگسائی کرنا۔</p>	<p>انڈیکر میں ہمدردی بتلائی درد بتلائی درد بتلائی درد بتلائی درد بتلائی درد</p>
<p>پدرو آمدن مصدر اصطلاحی۔ بیرون آنگندن</p>	<p>مصدر اصطلاحی۔ بیرون آنگندن</p>
<p>پدرو آمدن از در مصدر اصطلاحی۔</p>	<p>پدرو آمدن از در مصدر اصطلاحی۔</p>

(۲۲۶۹)

(۲۲۶۵)

(۲۲۶۷)

(۲۳۸۱)

ل (اردو) دروازے سے باہر ہو جانا (نکل پڑنا) بقول
رج (بدر رفتن عمر) بمعنی گذشتن عمر چھین است

اصفیہ۔ ظاہر ہو جانا۔ باہر آ جانا۔
رولہ (۵) یک ساعتش بدر نو دو ہزار سال پڑ

(۲۳۸۲)

بدر و ساختن | مصدر اصطلاحی۔ موافقت
عمری کہ در بلای فراق بدر و پڑو.....

بدر و کرون و متخل در و شدن (ظہوری ۵) بدر
رولہ (۵) بدر رفتن کسی | بمعنی بے خود شدن ہم آمدہ

عاقبت ایدل نمیتوانی ساخت پڑنا کہ تو بلای اثر
رولہ (۵) از سیر قطرہ چو ظہوری بدر و دم پڑن خانہ

نگردانم پڑ (اردو) درد کا متخل ہونا۔
بایدم کہ بساغر فرد کنم پڑ (اردو) (الف) جان بکلنا

بدر و کسی نشستن | مصدر اصطلاحی۔ بقول
ر (ب) ساعت گزنا۔ (ج) عمر گزنا (د) بیخود ہونا

غخواری کسی کرون (زلالی ۵) اگر خواہی بدر و او آپے سے باہر ہونا۔
نشستہ پڑ فرد تر شود بلہای شکستہ پڑ (اردو) کسی کا

بدر و | اصطلاح۔ بقول انشد سبحوالہ فرسنگ
بدر و اول و ثانی و سکون رای اول و فتح رای

ہمدرد ہونا۔ غم خوار ہونا۔ کسی کی ہمدردی کرنا۔
دوم بمعنی موری در بگذر آب را گویند مولف

غم خواری کرنا۔
عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی است بمعنی حقیقی

(۲۳۸۳)

الف) بدر رفتن جان | استعمال۔ بیرون رفتن
جان است (ظہوری ۵) بدر کہ می رودم جان

مرقت نیست پڑ غریب رستتم در وطن مرقت نیست
از خانہ یا از محاط بیرون رونده و کنایہ از ر بگذر

مرقت نیست پڑ غریب رستتم در وطن مرقت نیست
آب (اردو) بدر و بقول آصفیہ۔ فارسی۔ ہم

درا خود بدر رفتن) و (از سر بدر رفتن) کہ بجای خویش
مکونش۔ موری۔ پانی باہر جانے کا راستہ۔

گذشت از قبیل (د) باشد.....
بدر و دن | مصدر اصطلاحی۔ بقول انشد سبحوالہ

(۲۳۸۴)

ر (ب) بدر رفتن ساعت | بمعنی گذشتن ساعت
فرہنگ فرنگ (ا) بمعنی بیرون رفتن و (۲) اگر

پہ قافن گیریم۔ بحث تعریب درہنجا بے حاصل است کہ خود فارسیان بدرقہ را استعمال کرده و نمیتوان گفت کہ استعمال معرب شد زیرا کہ وہی نبود کہ اصل لغت را ترک کرده معرب را بجایش استعمال کنند پس این بمثل پدرجو باشد و بدرقہ مستعمل نیست و بدرقہ بذال مجہ معرب این کہ صاحب منتخب ذکرش کرد (ورد) فارسیان ہمین بدرقہ را برای چیز می استعمال کنند کہ با وارد وہ بہ بیمار و ہند کہ مُصلح دو ا باشد یا معین آن و در فارسی ہند (۳) لشکری کہ با قافلہ بطور محافظت باشد یا خود از سنی اول بر سبیل مجاز (ارو) (دا) بدرقہ بقول آصفیہ - فارسی - اسم مذکر - رہبر - رہنما - ہمسفر (۲) اطبا کی اصطلاح میں وہ دوا جو کسی دوا کی معاون اور مددگار ہو - مدو - وسیلہ (۳) سپاہ محافظت -

دل بر سر من می آروژ بدرش می کنم از سینہ بجات	بدرکاب بقول انندجوا کہ فرہنگ فرنگ کہ
سوگند ژ (ارو) باہر کرنا - خارج کرنا - اخراج -	رای ہلہ یہی کہ کسی را نمی گذارو کہ سوار شود مولف
پدر کردن حرف اولب مصدر اصطلاحی -	عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی و موافق قیاس است
بر آوردن سخن از زبان باشد (ظہوری ۵)	معاصرین عجم بزبان دارند (ارو) بدرکاب
ہر جا کہ حرف زہر زلب می کنم بدرقہ لذت زبانت	بقول آصفیہ وہ گھوڑا جس پر چڑھنا و سوار ہو - وہ
پہ شکر فرو کنم (ارو) منہ سے بات نکالنا - بات کرنا	گھوڑا جو رکاب میں پاؤں نہ رکھنے دے - شریہ -
بدر کردن سرازورچیم استعمال ہمزادہ سیمہ برآوردن	بدر کردن مصدر اصطلاحی - بقول انندجوا کہ
و بیرون کردن است (صائب ۵) نرفتنہ است	فرہنگ فرنگ بمعنی بیرون کردن و راندن و اخراج
سہرشتہ تاز دست بردن از سرازورچیم کہ ہر چہ را	ساختن و صاحب فرہنگ فدائی کہ از معاصرین عجم
بدر نہ کنی ژ (ارو) در سیمہ باہر نکالنا -	بودہ بر اخراج قانع (ظہوری ۵) آن بلا ہامہ

(۲۷۸۶)

بدر کشیدن از پرده استعمال - بیرون آوردن

قدرت یافتن و تاور شدن بر علاج (انوری ۵)

از پرده باشد و ظاهر کردن (ظهوری ۵) بگفتن

در دم فرود دست بدریاں نمی رسد با صبرم

رسوا کشد از پرده بدر با گرنگه بای نهان صورت

و تهر پیاں نمی رسد (ارو ۵) علاج بر قادر ہونا

تتاغل کند با (ارو ۵) پرده سے باہر لانا - ظاہر کرنا

بدر می گویم ای دیوار بشنو مثل - خان آرزو

بدر کشیدن از دل استعمال - بیرون آوردن

در چراغ ہدایت گوید کہ ما خود است ازیں مثل

از دل باشد (ظهوری ۵) زود دست صورت و

در تومی گویم دیوار تو بشنو یعنی جوان شخصی چیز

مشرب زون گر با کاری کن کہ از دل تنگت بدر

گویند و خواهند کہ گوش دیگری بکشند این مثل

کشم با (ارو ۵) دل سے باہر لانا - نکالنا

می آند (سليم ۵) ندارم اختیار گریه امشب با

بدرگ اصطلاح - بقول انند - مراد بخت

بدر می گویم ای دیوار بشنو با مولا کت عرض کنند

بطلینت - بدگوهر - بدرگہر - صائب ع - بجا موشی

مثل حقیقی کہ بر زبان خم است (ای در تومی گویم

زکر دشمن بدرگ بشو این با (میر محمد باقر داماد

دیوار تو ہم بشنو) و امن بجای خودش گذشت

اشراق تخلص ۵) بود ہ بندم چو فلک بدرگی

سکیم از ہیت مثل باختصار قلیل استعمال کرده است

عادتہ نگذاشت از ان صدیکی با (صائب ۵)

و خان آرزو نظر برسد - کلام سیم این را مثل قرار

کن ز چرخ شکایت کہ تو سن بدرگ با لکد بجزو

و مثل حقیقی را ما خود ازیں کرد - دیگر هیچ (ارو ۵)

از تازیانہ افزاید با (ارو ۵) بطلینت - دیکھو بڑا

و کجویک ای در تومی گویم دیوار تو ہم بشنو

بدرگ بھی کہ سکتے ہیں -

بدر نشستن استعمال - (اما بیرون شدن و بیرون

بدر ماں رسیدن دست مصدر اصطلاحی -

نشستن باشد و ظهوری ۵) شادوم کہ کار عقل

(۲۷۸۷)

(۲۷۸۸)

ن

در نشست با هر چیز غیر عشق ز خاطر بدر نشست
 (زوله ۵) در گریه چون جباب بدر پرد از چشم و زدن
 خود مشو بهنوا پیش بدر نشین با و جاوار و که (۲) بهمنی
 بدر نشستن هم گیریم (ار و و) (۱) با هر هونا - با هر هونما
 (۲) در وازه پر بیضا -

بدر رنگ | اصطلاح - بقول انند بکواله فر هنگ در
 بفتح رای مهله (۱) درشت رنگ موقوفت عرض کند
 که اسم فاعل ترکیبی است و (۲) بهمنی چیزی که
 رنگ حیثیتی او مستحیر شده و این مجاز معنی اول است
 (ار و و) بدرنگ - بقول آصفیه (۱) و ه شی
 جس کارنگ خوشنمانه بود (۲) در هم رنگ -

بدر نویسی | اصطلاح - بقول انند بکواله نفاس
 بفتح اول و روم و سکون رای مهله و فتح نون و
 کسر و او در اصطلاح اهل دفتر هند و جوه مطاب
 است که از روی آن بر عمال مواخذ و کنند و بفار
 آن را ابواب خوانند موقوفت عرض کند که اصطلاح
 سیاق است و بدر لغت هند بهمنی فاضلات

بر ذره کسی - و شک نیست که بدر لغت فارسی است
 بهمنی بیرون و هند یان همین لغت را بر سبیل کن
 برای زری استعمال کرده اند که خارج از حساب است و
 مواخذ آن از ذمه دار حساب کنند که باراده ثقل
 آنرا از حساب خارج داشت و چون امر زرخار
 را بر ذمه اش قائم کند آنرا بدر گویند و ترتیب افز
 بدر را بدر نویسی نام است - با حقیقت ابواب را
 بجایش ذکر کرده ایم - معاصرین عجم استعمال بدر نویسی
 به معنی بیان کرده اند نمی کنند - نمی دانیم که در ایوان
 از برای این چه باشد و از معاصرین عجم هیچ متحقق
 نمی شود و بر کلمات لفظی دیگر بر زبان می آرد و حقیقت
 این است که مقصود اصطلاح سیاق را نمی فهمند
 و ترجمه این در فارسی مواخذه بر آوردن و فاضلات
 بر آوردن است و بس (ار و و) بدر نویسی -

رقوم کا کھنا - حساب کی با هیبت کا دریافت کرنا -
 (انتهی) موقوفت عرض کرتا ہے کہ صاحب آصفیہ

<p>ظہور نہیں فرمایا ہے۔ ان افراد کے مرتب کرنے کو (دبدر نویسی) کہتے ہیں جن کی رو سے ذمہ دار حساب کے ذمہ بدر قائم کریں۔ یعنی فاضلات نکالیں اور مواخذہ قائم کریں۔</p>	<p>برعکس محققین بالاست۔ فارسیان گویند کہ اسے اواز عہدہ اینکار بدر نیاند کہ یعنی کامیاب نہ شد۔ پس بنیال مجرود (دبدر نیاندن) را یعنی در ماندن گرفتن قابل نظر است حیث است کہ محققین بالاسند استعمال پیش نکرند و محققین اہل زبان ذکر این نکرده اند معاصرین عجم پر زبان نماند مشتاق سند با شیم (اردو) (۱) عاجز ہونا (۲) باہر آنا۔</p>
<p>دبدر نہادن استعمال۔ بیرون کردن است (ظہوری ۵) در دل سہادتنگ شود جای جسمش ہر آرزو کہ داشت ظہوری بدر نہاد (اردو) ہا رکھا۔ باہر کرنا۔ نکال دینا۔</p>	<p>دبدر اصطلاح۔ بقول انند جوالہ فرہنگ فرنگ بفتح راسی پہلہ بمعنی بدر فتار مولف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی است ولیکن نمی کشاید کہ مقصود از بدی نصال است یا شمی۔ معاصرین عجم و محققین زباندا ازین ساکت سند استعمال پیش نہ شد کہ تصفیہ معنی می (اردو) بدروش۔ بدچلن۔ دیکھو بد خصال۔ وہ شخص جس کی چال اچھی نہ ہو۔</p>
<p>دبدر نیاندن مصدر اصطلاحی۔ بقول ضمیر برہان (۱) بمعنی در ماندہ شدن و (۲) بیرون نیان صاحب بحر ذکر معنی اول کردہ۔ صاحب مؤید جوالہ قضیہ ذکر مضارع این (دبدر نیاند) کردہ گوید کہ ای در ماندہ نگرود و فرماید کہ معنی ترکیبی این بیرون نیاند مولف عرض کند کہ قول مؤید</p>	<p>دبدر اصطلاح۔ بقول سرور سی کسر با و ضم رای مہلہ (۱) بمعنی وواع (حافظ شیرازہ) ماہ گشتانی من سند مصرآن تو شد پ وقت آنست کہ بدرو کنی زندان را پ صاحب جہانگیری بذکر معنی اول گوید کہ (۲) بمعنی سلامت (نظامی ۵) اگر قطرہ شد چشمہ بدرو د باد پاشکتہ سبوبر</p>

رو و باد و صاحب برهان بذكر معنی اول گوید که (۳) یعنی ترک که واگذاشتن و دست برداشتن از
 چیزی و نسبت معنی دوم فرماید که سالم و سلامت که صاحبان جامع و ناصری همزبانش خان آرزو
 در سراج گوید که معنی سوم حقیقی است یعنی گذاشته شده و اطلاق کرده می شود بر معنی اول و دوم
 و مشهور بهای فارسی است. صاحب فدائی که از معاصرین عجم بود بر معنی دوم قانع و صاحب غیا
 بسواله مدار و کشف گوید که بالکسر و بالتضم هر دو آمده مؤنثت عرض کند که همین لغت بر معنی اول
 و دوم بهای فارسی اهمی آید چندان نیست که (درو) بالکسر اسم مصدر و (درو) حاصل بالمصداق
 (درو) است که بمعنی قطع کردن می آید پس معنی (درو) قطع باشد. فارسیان در آتش
 مؤخره زائد آورده (درو) کردند و معنی اول و سوم بر سبیل مجاز باشد و معنی دوم مجاز مجاز
 یعنی چیزی را که ترک کنند سلامت باشد و ماخذ این معنی در اینجا همان شعر نظامی است
 که بالاند کور شد و خیال ما نیست که (درو) در سند بالا بمعنی اصطلاحی دیگر است و با بحال
 خوش) باشد که متعلق بمعنی سوم (درو) است و معنی سلامت مراد می است و با دارد که این
 بالغت سنکرت بد تعلقی باشد که بقول ساطع بالکسر بمعنی وواع آمده ولیکن ترکیب این با رو
 درست نمی شود فال اول اقوی من الثانی. آنچه بهای فارسی می آید مبتدل این باشد چنانچه
 است و اسپ (ارو) (۱) وواع بقول آصفیه - عربی - اسم مؤنث - رخصت - رو
 بد - (۲) سلامت بقول آصفیه - عربی - محفوظ - هر یک بلاسے پچا هوا - صحیح - تند رست
 (۳) ترک - بقول آصفیه - عربی - اسم مذکر - واگذاشت - در گزر - دست برداری -

درو کردن	استعمال بمعنی ترک کردن	استند این از کلام خواجه حافظ بر معنی اول
----------	------------------------	--

<p>(ارو) (را) و کچو بد اختر (۲) ظالم ظلم کر نیوالا - پدر روز اصطلاح - بقول انند و بهار یعنی پدر و زاهم روزی می خورد مثل - صاحب</p>	<p>دیر رو) گذشت (ارو) ترک کرنا - پدر روز اصطلاح - بقول انند و بهار یعنی بد بخت (ملا وحشی ۵) می کند صد بار هر ساعت</p>
<p>نرمینه ذکر این کرده از معنی و مثل استعمال کتا من پدر و زاهم من نمیدانم که روزی چند بار می کشد (مثل) پدر و زاهم روزی می خواهد مولف عرض کند که اسم فاعل ترکیبی است یعنی روز بد وارنده (ارو) و کچو بد اختر -</p>	<p>صاحب آنند نقل نگارش مولف عرض کند که تسامح بهار و انند است که تصرف کرده اند یا کاتب مطبع غلط کرده با جمله فارسیان این مثل را بحث بد بخت می زنند مقصود همین قدر که بد بخت هم پدر و زاهم نباشد و فاقه نمی کشد یعنی روزی رسان اورا هم روزی می رساند (ارو) دکن میں کہتے ہیں خدا کسی کو بھوکا نہیں رکھتا</p>
<p>فرهنگ فرنگ (را) یعنی بد طالع و (۲) ظالم جفا کار (سعدی شیرازی) نماند ستمگار پدر و زاهم و بهماند بر و لعنت پاندار و مولف عرض کند که مراد پدر و زاهم بد بخت است اسم فاعل ترکیبی معنی ووم که از کلام سعدی پیدا کرده اند غلط</p>	<p>پدر و زاهم اصطلاح - بقول شمس - پنجه بدان پنجه و چشم زدن کنند و صراحت کند که لغت فارسی زبان است مولف عرض کند که محققین فارسی زبان ساکت معاصرین عجم بر زبان اندازند در لغات عرب و ترک و سنسکرت هم یافته نمی شود اگر سند استعمال پیش شود تو انیم عرض کرد که اسم جامد فارسی زبان و اسم آ که بوسیده آن پنجه می زنند مجر و بیان شمس اعتبار را نشاید (ارو)</p>

روئیں دستکے کا دستہ چونکہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مذکر۔

پدرہ | بقول جہانگیری مرادوت بدری و بدکہ با اول مفتوح و ثانی زودہ خریطہ باشد مرتب کہ طو
از عرض اندک بیشتر آرا از چرم و گلیم و شمال گندہ بدوزند و زر و پول و راں پیکر کردہ از جای
بجای ہرند و ہندی بوری گویند۔ صاحب رشیدی گوید کہ بقول صاحب قاموس لغت عرب
است صاحب برہان بذر معنی اول بچوالہ موید فرماید کہ (۲) بہنی و رختی کہ بار و مہوہ ندارد
و صاحب موید بدیل لغات فارسی بچوالہ لسان الشعر از ذکر معنی دوم کردہ و بدیل لغات عرب
گوید کہ پوست بز و بزغالہ شیر خوارہ و دہ ہزار درم و بقول جامع کیمسہ ہزار پول صاحب ناصر
گوید کہ عربی خواہد بود۔ خان آرز و در سراج گوید کہ بدکہ بتدل بدہ و بدہ ظاہر است
و نسبت معنی دوم فرماید کہ بدہ را کہ بہنی دوم می آید بہ تصحیف خوانندہ اند صاحب منتخب گوید کہ
بالفتح پوست بزغالہ کہ از وی مشک سازند برای شیر و روغن و غیر آں و ایسان ہزار درم یا
و ہ ہزار درم یا ہفت ہزار دینار۔ مؤلف لغت عرض کند کہ فارسیان ہمین لغت عرب را مفسرین
کردہ بہنی عام خریطہ زر استعمال کردہ اند و خصوصیت معنی لغت عرب را بہ تقسیم بدل کردہ اند
بدری بتدل این کہ ہای ہوز آخر بدل شد بہ تحتانی چنانکہ شاہسکان و شاہیکان و بدکہ ہم
بتدل است چنانکہ خان آرز و گفتہ یعنی رای ہمہ بدل شد بہ لام ہچوں چہار و چہال نسبت
معنی دوم عرض می شود کہ اگر سند استعمال پیش شود اسم باید فارسی زبان گیریم مجاز معنی اول باشد
کہ کہ یہ کہ خالی می باشد خستہ بی بار گفتند۔ و بدینوجہ کہ صاحب موید بدہ و بدہ ہر دورا ذکر کردہ
خیال تصحیف باقی نماید۔ چنانکہ خان آرز و پیدا کردہ (انوری ص ۵) جلوہ احسان خود در عمر کردی تونہ

گر ہمہ صد بدرہ زر بود است و صدر زرہ شتاژ (اردو) (۱) چرمی پائشی تھیلی جس کے زیر سے رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ موٹٹ (۲) بے بار درخت۔ مذکر۔

بدری | بقول جہانگیری و رشیدی و برہان و

جامع و سراج مراد بدرہ (عظیم سانی سے)

جہت خواہم و دراعہ نخواہم زر و سیم بڑا لکھ بہتر

بود آن ہر روز یا نصد بدری بڑا مولف عرض کنند

کہ بحث این بر بدرہ گذشت (اردو) و کچھو بڑا

بدریا آمدن | مصدر اصطلاحی۔ بقول انند

بجوالہ فرہنگ سکندر نامہ بمقام خطرناک رسیدن

مؤلف عرض کند کہ طالب سند باشیم و این

کنایہ باشد کہ دریا ہم مقام خطر است (اردو)

خطرناک مقام میں پہنچنا۔

بدریا داؤن | مصدر اصطلاحی۔ بقول ضمیمہ

برہان و بگردا، کنایہ از شستن و (۲) دور کردن

و (۳) قطع نظر کردن صاحب انند بر معنی اول

و دم قانع صاحبان موید ہفت بڈکرا ضمی مطلق

این گویند کہ ہی شست و دور کرد مؤلف

عرض کند کہ معنی اول موافق قیاس است کہ

شست و شو بہ متعلق است از دریا و معنی دوم

ہم من وجہ موافق قیاس۔ بر ہمیں مجاز کہ دریا

دور می باشد برای معنی سوم طالب سند باشیم کہ

معاصرین عجم بر زبان ندارند اگر سند استعمال پیش

شود مجاز مجاز گیریم (اردو) (۱) دھونا (۲)

دور کرنا (۳) قطع نظر کرنا۔ بقول ۳ ضمیمہ کسی چیز کا

خیال چھوڑ دینا۔ کسی بات کو ترک کر دینا۔

بدریا ریشستن | مصدر اصطلاحی۔ بقول

روزنامہ بجوالہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاجار

غرق شدن بدریا مؤلف عرض کند کہ ریشستن

لازم و متحدی ہر دو آدہ پس یعنی حقیقی باشد

(اردو) غرق ہونا۔ ڈوبنا۔

بدریا نشستن | مصدر اصطلاحی۔ ما اشارہ

این بر ریشستن کرده ایم کہ مراد آن است

<p>بدنیا بدریوزہ آید از شیخ شیراز (۵) چو صحرائ</p>	<p>وگیر هیچ (ارو) دیکھو بچھون نشستن۔</p>
<p>محشر ز میں تفت گرفت پڑ بدریوزہ آسماں کفت</p>	<p>(الف) بدریوزہ آمدن استعمال۔ بچھون</p>
<p>گرفت پڑ (ارو) (الف و ج) (د) پتھ پھیلا</p>	<p>(ب) بدریوزہ فرستادن انڈالف مراد</p>
<p>بمقول آصفیہ دست سوال و راز کرنا رند</p>	<p>(ج) بدریوزہ کفت گرفتن (ب) و پڑ کر (ج)</p>
<p>(۵) تیراجی چاہے تو پلو او سے کوئی جام</p>	<p>از معنی ساکت مولف عرض کند کہ (الف)</p>
<p>شراب پڑ پتھ پھیلا نے کا بندہ نہیں</p>	<p>(و ج) دریوزہ گری کردن است (ب) و پڑ</p>
<p>عادی ساقی پڑ (ب) بھیجک لنگنے</p>	<p>آں کہ کسی را برای دریوزہ فرستادن باشد (نوری)</p>
<p>کے لئے بھیجنا۔</p>	<p>(الف ۵) ہوا ماہ و گیر چہاں گرم کر دو پڑ کہ دور</p>
<p>بدریون بمقول ناصری ہر وزن سرنگوں سبھی منقل ازرق و گوید کہ لغت سریانی است صحاب</p>	
<p>محیط ذکر میں نکر و بر منقل گوید کہ بسریانی مقلہ و برومی ہذا لیون و بیونانی ما و لیون و افلا</p>	
<p>وفدلیون و ہترکی قارہ و بعربی قضر و منقل الیہود و بفارسی توستے جہودان برای آنکہ یہوداں</p>	
<p>ازاں بسیار بخور می نمایند و بہندی گوگل نامند مولف عرض کند کہ ما برآلہ بحث میں کہ وہلم</p>	
<p>مغنی مہاد کہ بدریون در لغات سریانی یافتہ نمی شود خیال ما اینست کہ فارسیان ہذا لیون برومی</p>	
<p>بدریون کر وہ باشند کہ تبدیل ذال جہمہ بہ دال مہلہ می شود چنانکہ استاد و استاد و لام بہ ساری مہلہ</p>	
<p>بدل شود چنانکہ آوند و آروند و الف سوم حذف شدہ باشد واللہ اعلم بحقیقتہ الحال (ارو) و خبیوالہ</p>	
<p>بدر زبان اصطلاح۔ بقول انندہ بحوالہ فرہنگ</p>	<p>سہار بڈ کر میں زبان را بند کرد تا بد زبان نشود</p>
<p>بفتح و ضم زای جہمہ بڈ گو و مغتری و عیب گو و زبان</p>	<p>مولف عرض کند افرار در معنی میں داخل</p>

<p>کردن زبان و راز بیست - اسم فاعل ترکیبی است یعنی زبان بد وارندہ (ارو) بد زبان بقول آصفیہ - سخت زبان سخت کلام - گالی گلوچ بکنے والا - گستاخ -</p>	<p>بد زندگانی کہہ سکتے ہیں - صاحب آصفیہ نے بد معاش پر فرمایا ہے - اسم مذکر - وہ شخص جسکی روزی برسے کاموں پر منحصر ہو - حرام خوار - بد چلن - شریر - بد ذات - لچہ - شہداء - حرام زاد گنڈا - گنگارا -</p>
<p>بد زندگانی مصدر اصطلاحی - بقول بہار و بحر و اندر یعنی بد کردن (میر خسرو) برون خوش چوں فال بد زور ہماں فال بد اور احوال بد مولف عرض کند کہ بہار و انند نقل نگار ہر دو از سند بالا خوب کار گرفتہ اند و نمیدانند کہ (فال) و (حال) دون بہت - بن است تلاش محققین و نا آگہ دہ زون (راسداری بدست نیاید اعتبار معنی را نشاید (ارو) بد کرنا -</p>	<p>بد زندگانی اصطلاح - بقول انند بحر و فرہنگ فرنگ بمعنی شریر و ظالم و بد معاش رشیخ شیراز (انجمنیں بد زندگانی مردہ ہوا مولف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی است یعنی کسی کہ بہ بد حالی و بد معاشی می گذارد (ارو)</p>
<p>بد زہرہ اصطلاح - بقول مسروری در معنیات - بدول کہ عبرتی جہان گویند (شیخ سر انداز و عاشقی صادق است و کہ بد از ہرہ بر خویشتن عاشق است و صاحب جہان صراحت مزید کند کہ مرد ترسندہ رانا مند و بقول برہان و جامع و نا صریح بر وزن زہرہ کنایہ از بدل و ترسندہ و واہمہ تاک و بقول بجز نامزد مولف عرض کند کہ (۱) ترجمہ جہان عربی ہی نام مرد است سند بالا برای انہی است (۲) کسی کہ دل و صاف نہ باشد - بدول (میر خسرو) خرد بیس و ثمن بد زہرہ را آب وہ از زہرہ او وہرہ را (ارو) (۱) ڈرپوک - بقول آصفیہ</p>	<p>بد زہرہ اصطلاح - بقول مسروری در معنیات - بدول کہ عبرتی جہان گویند (شیخ سر انداز و عاشقی صادق است و کہ بد از ہرہ بر خویشتن عاشق است و صاحب جہان صراحت مزید کند کہ مرد ترسندہ رانا مند و بقول برہان و جامع و نا صریح بر وزن زہرہ کنایہ از بدل و ترسندہ و واہمہ تاک و بقول بجز نامزد مولف عرض کند کہ (۱) ترجمہ جہان عربی ہی نام مرد است سند بالا برای انہی است (۲) کسی کہ دل و صاف نہ باشد - بدول (میر خسرو) خرد بیس و ثمن بد زہرہ را آب وہ از زہرہ او وہرہ را (ارو) (۱) ڈرپوک - بقول آصفیہ</p>

<p>دالف (۱) بد و وضع بنا نار (۲) و کچھو بد کردن رب (ب) بری ساخت رکھنے والی چیز۔ بد وضع بقول آصفیہ ناموزوں۔</p>	<p>بزدول۔ کم ہمت۔ بودا (۲) بدول بقول آصفیہ ناخوش۔ ناراض۔ بدظن۔ بدگمان۔ بدزیب اصطلاح۔ بقول انند۔ بحوالہ</p>
<p>بدساعت استعمال۔ بقول انند۔ بحوالہ فرہنگ فرنگ بکسر زامی حجرہ بدنا و نازیب مولف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی است مقابل زیبا گویند کہ جامہ تو بدزیب است بدستی زیبا نیست (اردو) بدزیب بقول آصفیہ بدنام۔ ناموزوں۔ نازیبا۔ ہیڈول۔ بھونڈا۔</p>	<p>بدساعت استعمال۔ صاحب آصفی دالف (الف) بدساختن رب (ب) بدساز دالف (الف) راقائم کردہ از معنی ساکت مولف عرض کند کہ (۱) بمعنی وضع کردن بہ غیر خوبی و (۲) مراد وقت بد کردن است و رب (ب) بقول بہار چیزی کہ ساخت خوب نہا باشد صاحب بھرا ہم ذکر ہیں کردہ (میر خسرو ۵) کوزہ می نگرا از چرخ چہ خوش ساختہ اند شیشہ چرخ چہ غم داری اگر بدساز است یا مخفی مباد (ب) اسم مفعول ترکیبی است (اردو)</p>
<p>بدست بقول سروری و برہان و جامع بفتح با و دال و سکون سین۔ وجب را گویند کہ بربی شہر گویند و بکسر را و دال نیز بنظر رسیدہ (سحدی و رہزل ۵) بدستی را کہ در شتی گنجیدہ چوانگشتی فرو بردہ بنحائتم از صاحب جہانگیری و رشیدی با اول و ثانی مکسور آورودہ (منوچہری و صنعت اسپ ۵) بر طراز آخستہ پویہ کند چون عنکبوت بر بدستی جامی بہ جولان کند چون باب زن از</p>	<p>بدست بقول سروری و برہان و جامع بفتح با و دال و سکون سین۔ وجب را گویند کہ بربی شہر گویند و بکسر را و دال نیز بنظر رسیدہ (سحدی و رہزل ۵) بدستی را کہ در شتی گنجیدہ چوانگشتی فرو بردہ بنحائتم از صاحب جہانگیری و رشیدی با اول و ثانی مکسور آورودہ (منوچہری و صنعت اسپ ۵) بر طراز آخستہ پویہ کند چون عنکبوت بر بدستی جامی بہ جولان کند چون باب زن از</p>

<p>پریشان برنگہ وانمہ ہر مولف عرض کند کہ بختی حقیقی کنایہ ایست و حاصل شدن چیز ایست اگرچہ در دست نیاید (ارو) ہاتھ آنا بقول آصفیہ حاصل ہونا۔ ہاتھ لگنا۔ ہاتھ میں آنا۔ قابو میں آنا۔ بہم پہنچنا۔ دستیاب ہونا (سوزہ) بس غم تو نے بہت ستایا ہر سچ کہ کیا تیرے ہاتھ آیا ہر (منظور) پاؤں آنکھوں سے اس سہلانا ہر خوب خدمت یہ ہاتھ آئی ہے ہر آنا ہاتھ آ یا زاہدون کونہ اہر و کمان مرزا آخر</p>	<p>در حکیم سوزنی (۵) ہووا از تصرف تو ہرون ہر یک دست از زمین انگ انگ صاحب نامہ گوید کہ بفتح اول و ثانی نزدیک تر است از معنی و کسر اول و ثانی ہر مولف عرض کند کہ موحده اول تعلق دست پیدا کند آنا کہ این را کسر موحده و وال مہملہ خوانند غور بر ماخذ نمی کنند و محاورہ سوقیاں جاہل است کہ غلط العوام شد (ارو) بالشت و بکھو او وس۔ ب دست آمدن مصدر اصطلاحی۔ بقول بہر و انما حاصل شدن (رباعی مولوی معنوی)</p>
<p>چلے رہ گئے دو چار کھینچکر ہر ب دست آوردن مصدر اصطلاحی بقول انند بحوالہ فرہنگ فرنگ حاصل کردن مولف عرض کند کہ مستعد می (ب دست آمدن) است کنایہ ایست با معنی حقیقی یعنی حصول چیزی کہ حقیقہ در دست آید یا بالمعنی حاصل شود (انوری) (۵) از گریبان من نداری دست ہر تا و گرد مہنی ب دست آرم ہر حاصل نیست کہ ب دست آوردن</p>	<p>امروز ندا نم بچہ دست آمدہ ہر کز اول باداد مست آمدہ ہر گر خون و لم خوری ز دست ند صم ہر زیرا کہ بخون دل بدست آمدہ ہر (ظہوری) ظہوری پای خوردی تو ب شکستی خلط با شہر ہر نہانستی غنیمت کا بچنیں ساتی ب دست آید ہر (ولہ) رہ شوریدہ حالان می دم شاید بدست آید ہر دل جمعی کہ از زلف</p>

<p>(ب) ہدست آوردن کسی راضی کردنش آوردین بجای خودش گذشت کہ مرادش آوردن</p>	<p>بچیزے) حاصل کردن اس چیز است در ہست چنانکہ در کلام انوری گذشت و.....</p>
<p>با خورد صائب (۵) صنوبر پاجیدیستی ہدست آورد ہست و ہیست بالجملہ این مرادش ہدست آوردن</p>	<p>صنوبر پاجیدیستی ہدست آورد ہست و ہیست بالجملہ این مرادش ہدست آوردن</p>
<p>ہدست آوردن دنیا کہ بمعنی مالدار بہ از دست برسینہ پیش امیر</p>	<p>ہدست آوردن دنیا کہ بمعنی مالدار بہ از دست برسینہ پیش امیر</p>
<p>دل ہدست آرڈ (ارو) ہاتھ میں لانا بقول آصفیہ حامل کرنا۔ ہمانا۔ قبضہ کرنا (ب)</p>	<p>دل ہدست آرڈ (ارو) ہاتھ میں لانا بقول آصفیہ حامل کرنا۔ ہمانا۔ قبضہ کرنا (ب)</p>
<p>دل لے فقیر کا بھی ہاتھوں میں دلہی کرڈ آجے سے کونا بھلائی امیروں کی چاکری سے فقیری بھلی</p>	<p>دل لے فقیر کا بھی ہاتھوں میں دلہی کرڈ آجے سے کونا بھلائی امیروں کی چاکری سے فقیری بھلی</p>
<p>ہدستار بستن استعمال۔ بقول آصفیہ مرادش</p>	<p>ہدستار بستن استعمال۔ بقول آصفیہ مرادش</p>
<p>ہدستار زون وفرماید کہ معروف است رصائب</p>	<p>ہدستار زون وفرماید کہ معروف است رصائب</p>
<p>(۵) دشور عشق اگر گل بر سر وستاری بستم ڈوسر</p>	<p>(۵) دشور عشق اگر گل بر سر وستاری بستم ڈوسر</p>

شوریده منصوره ابرواری بستم و حضرت شیخ
 که غیر از سدی نباشد (۵) از بس مرابشریب
 پروانه الفت است و آتش بجای لاله بدستار
 بسته ام و مولا عرض کند که از سند اول
 مصدر (بر دستار بستن) پیداست عیبی ندارد
 معنی حقیقی (بدستار بستن چیزی) و در دستار بستن
 چیزی (خبر می دهد از آئین و رسم فارسیان که لاله
 سبز تیج بر دستار می بندند (ارو ۹) کسی چیز کو دستار
 می لگنا جیسے طره کسی چیز کا دستار پر باندھنا جیسے
 سبز تیج وغیره۔

بدستار چه وادون

مصدر اصطلاحی - بقول
 اند بهدیه و تحفه وادون (خاقانی ۵) جان بدستار
 چه دهم آنرا و کز غیب طوق در بر اندازد و مولا
 عرض کند که دستار چه بقول غیاث رومال را گویند
 شاعر گوید که کسی که از غیب خود طوق در گردن ما
 می اندازد جان خود را نذرش کنیم - پس در اینجا معنی
 هدیه و تحفه وادون درست نمی شود بلکه نذر وادون است

که بهتر از هدیه وادون باشد نظریه بزرگی نذر دستار
 که سگه طلا و نقره را بر رومال کرده پیش کنند -
 (ارو ۹) نذر وینا - بقول آصفیه کسی حاکم یا
 رئیس یا پادشاه کو بچیسٹ وینا - پیشکش پیش کرنا
بدستار زون | استعمال - بقول اند مرادون
 بدستار بستن که گذشت سدی پیش نه شد مولا
 عرض کند که خلاف قیاس نیست و تعریف این
 بر (بدستار بستن) گذشت (ارو ۹) و کچھ بدستار
بدست استبرق | اصطلاح - بقول شمس
 بیابانهای سبز رسته مولا عرض کند که استبرق
 لغت عرب است بمعنی دیبای سفت و گره
 مثل اطلس و استبره هم بدین معنی آمده پس معنی
 لفظی این استبرق را بدست دارند و قلب را استبرق
 بدست) اسم فاعل ترکیبی و کنایه از سبزه زار -
 مجرد قول شمس بدون سند استعمال اعتبار را
 نشاید محققین فارسی زبان ازین ساکت و
 معاصرین عجم بر زبان ندارند ولیکن خلاف قیاس

مصدر اصطلاحی - بقول
 اند بهدیه و تحفه وادون (خاقانی ۵) جان بدستار
 چه دهم آنرا و کز غیب طوق در بر اندازد و مولا
 عرض کند که دستار چه بقول غیاث رومال را گویند
 شاعر گوید که کسی که از غیب خود طوق در گردن ما
 می اندازد جان خود را نذرش کنیم - پس در اینجا معنی
 هدیه و تحفه وادون درست نمی شود بلکه نذر وادون است

نیست (اردو) سبز زار بقول آصفیه فارسی - اسم ندر - مرغزار - چراگاه - هرا جنگل - گھانس گھانسی

یعنی (۱) آگاه باش و تقصیر کن (شیخ سعدی ۵) چو بر ولایت دل دست یافت لشکر دل تو بدست باش که هر باد را بیغما نیست تو در خواسته ^{فظ}

بدست افتادن | مصدر اصطلاحی - مراد

(۵) گرت ز دست بر آید مراد خاطر ما تو بدست باش که خیری بجای خویشتن است تو صاحب جهانگیر

بدست آمدن است (صائب ۵) بدین امید که سر رشته بدست افتد تو شود چو سوزن اگر سبک پرت

در لطافت بذكر معنی بالا گوید که حاضر باش و از هر دو اشعار بالا استند دکنند و گوید که هر دو مال

تزار محسب تو روله (۵) گرد بدست افتد چو ماه نو لب نانی مراد تو خلق ز انگشت اشارت تیر بارانم

حافظ شیراز است و در مصرع اول سند اول بجای دلشکر دل (لشکر عشق) نوشته و بقول

کنند تو ز ظهوری (۵) کشیدم در گریبان سینہ صبح تو بدست افتاده دامان دل شب تو روله (۵)

برهان آگاه باش و باخبر باش و خود را از دست ده و تقصیر کن - صاحب رشیدی در استعارت

سبوی با ده عشقه بدست افتاد از جانان تو و گرسنگ بجای دور ساغر بر نمی آید تو (اردو)

ذکر این کرده - خان آرزو در سراج فرماید که حاضر باش و آگاه باش مولف گوید که مصد

هاتھ گنا - بقول آصفیه حاصل هونا - دستیاب هاتھ آنا (ظفر ۵) هوس میں کشتے هوس هوانه کچه

باشیدن بجای خودش گذشتت و بودن می آید و باش امر حاضر باشیدن است بدست بودن

حاصل تو بجز نصیب کبھی هاتھ کیمیا نه گے تو دیکھو بدست آمدن -

بقول برهان کنایه از باخبر و آگاه و همیشه بودن می آید و بدست باشیدن (راه هم قیاس بهرین

اصطلاح - بقول سروری و بحر بدست باش

(۱۶۸۱)

(۱۳۹۹)

<p>بدست چپ حساب کردن مصدر اصطلاحی</p>	<p>می خواهد و معنی برد و آماده بودن و با خبر و هشیار</p>
<p>مرادف (بدست چپ شمردن) و صراحت ماخذ هم در اینجا خان آرزو در سراج بذیل (بدست چپ شمردن) می فرماید (۵) ز بسکه چشم تو باشد که بیم بر من نکالت بدست چپ نگه آشتا حساب کند (ارو) و کجیو بدست چپ شمردن -</p>	<p>بودن کنایه ایست از معنی حقیقی چیزی را بدست داشتن و این امر حاضر آن است بمعنی آماده باش و هشیار باش - طرز بیان محققین بالا معنی حقیقی را دور می برد - صاحب رهنما سوا که سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار گوید که (۲) خوش باش - حیث است</p>
<p>بدست چپ خفتن مصدر اصطلاحی - بقول</p>	<p>که نقل عبارت نکر و تامی دیدیم که استعمال این بر چه معنی است مجر و بیانش تسکین مانعی کند معاشرین</p>
<p>ولدسته و بجز و اند با رام خواب کردن (طالب آملی (۵) خلوتی دارم از هوس رفته با عشق در روی بدست چپ خفته با مولف عرض کند که عادت است که بدست چپ خواب راحت می آید از</p>	<p>عجم با اتفاق دارند (ارو) (۱) آماده ره - آگاه ره - نه چوک (۲) خوش ره -</p>
<p>بدست بودن مصدر اصطلاحی - بقول</p>	<p>رشدی و جهانگیری (در ملحقات) کنایه از حاضر و</p>
<p>همین است این مصدر اصطلاحی (ارو) با کروٹ سونا -</p>	<p>هوشیار بودن است و بقول برهان با خبر و آگاه</p>
<p>بدست چپ شمار کردن مصدر اصطلاحی -</p>	<p>و هوشیار بودن و بقول جامع با خبر و آگاه شدن</p>
<p>بقول بجز مرادف بدست چپ شمردن مولف عرض کند که بحث کامل این بر (بدست چپ شمردن) می آید (ارو) و کجیو بدست چپ شمردن -</p>	<p>مولف عرض کند که ذکر این بر (بدست چپ) گذشت و سند این هم هم در اینجا مذکور (ارو) آماده ره - با خبر رهنما - هشیار رهنما -</p>

بدرست چپ شمردن

مصدر اصطلاحی بقول

باشد (صائب ۵) کف آب بدست خویش نمکن

سروری در طحقات و بقول جهانگیری در غنیه کنا

بود خوردن از غبار آلوده منت مکن از کوزه آب

از بسیاری رخا فانی ۵) عاشق کبشی به تیغ غمزه

خود پا (ارو) اوک سے پانی پینا بدون آنچه

چند آنکه بدست چپ شماری از صاحبان برهان

بدرست دادن زمام و عثمان

باعتبار کسی سپردن است (انوری ۵) قضا

بمهر و جامع ذکر این کرده اند صاحب رشیدی فرمایند

که بسیاری حساب و بقول خان آرزو در سراج

بدرست و بهم زمام جهان از زمانه گفت که او خود

بسیاری معدود محققین فوق الذکر بالاتفاق صحرا

جهان مستوفاست (ارو) با تمهین رگام دنیا

کرده اند که در حساب عقدا نامل اعداد و عشرات

اختیار بر چھوڑوینا۔

بنا نامل دست راست مخصوص است و مات و الو

بدرست داشتن استعمال۔ صاحب انند بنقل

بنا نامل دست چپ مولف عرض کند که از اینجا

ببهار عجم گوید که دست در اینجا یعنی قبض و تصرف

که فارسیان این مصدر اصطلاحی را قائم کرده اند

و اختیار و اقتدار است مولف عرض کند که (۱)

معنی این بسیار شمار کردن است نه مجرد بسیار۔

بقبضه داشتن است (۲) یعنی حقیقی که بکف

(ارو) زیاده تعداد میں گننا۔ شمار کرنا۔

دست داشتن باشد (ارو) با تمهین رکھنا

که چون بر لب جوسه و امثال آن آب خورند۔

بقول آصفیه (۱) قابو میں رکھنا۔ پس میں رکھنا

عوام الناس کف دست را واسطه و بجای آب بخورد

قبضه میں رکھنا۔ (۲) پاس رکھنا۔ منگی میں رکھنا۔

می گیرند پس معنی حقیقی این آب خوردن بغیر آب خوردن

دالف بدرست و گیری مار گرفتن

بقول انند کنا یہ از مباشر کار خطرناک شدن در خسرو

(۲۳۹۲)

(۲۳۹۵)